

برائے فوری اجراء

برامپٹن کی ریجنل کونسلر روینا سینٹوس کو FCM کے 2020-2021 بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بطور ممبر منتخب کر لیا گیا ہے

برامپٹن، آن (15 اکتوبر 2020) – آج فیڈریشن آف کینیڈین میونسپلٹیز (FCM) نے اعلان کیا ہے کہ ریجنل کونسلر روینا سینٹوس کو [فیڈریشن آف کینیڈین میونسپلٹیز بورڈ آف ڈائریکٹرز](#) میں ایک سال کی مدت کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے۔

ڈائریکٹر کے انتخابات 5-7 اکتوبر کو منعقد کیے گئے تھے اور نتائج کا اعلان آج FCM کی سالانہ جنرل میٹنگ میں کیا گیا ہے۔

FCM کو 1901 کے بعد آج تک کینیڈا کی میونسپل گورنمنٹ کی ایک قومی آواز ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس کے ممبران میں کینیڈا کے شہروں اور دیہی علاقوں سے لے کر شمالی علاقہ جات کی کمیونٹیز اور 20 صوبائی اور علاقائی میونسپل ایسوسی ایشنوں سمیت ہر ساٹھ سے زیادہ میونسپلٹیز شامل ہیں۔ یہ کینیڈا کے تینوں اطراف سے ساحل کے ساتھ ملحقہ علاقہ جات کی مجموعی طور پر 90 فیصد سے زیادہ آبادی کی نمائندگی کرتی ہے۔ پورے کینیڈا کے میونسپل رہنماء کلیدی مسائل پر FCM کی پالیسی متعین کرنے کے لیے ہر سال اکٹھے ہوتے ہیں۔

برامپٹن سٹی کونسل کے اقدامات اور [کونسل کی مدت کی ترجیحات](#) تینوں اطراف سے ساحل سے ملحقہ کینیڈا کی بہت سی میونسپلٹیوں کے مفادات کی عکاسی کرتی ہیں، جن میں سستی رہائش، نقل و حمل کی سہولیات، آب و ہوا کے اقدامات، تنوع کی خوشیاں منانا اور نسل پرستی کی پالیسی پر عمل درآمد کرنا شامل ہے اور کاروباروں اور کمیونٹیز کو کووڈ-19 کے نقصانات کا ازالہ کرنے اور معیشت کی بحالی میں معاونت فراہم کرنا۔

اقتباسات

"برامپٹن ایک دیہی علاقے سے نکل کر موجودہ طور پر ایک نیم شہری علاقے کی حیثیت اختیار کر چکا ہے اور اب وہ ایک متحرک شہری مرکز میں کینیڈا کی نویں بڑی میونسپلٹی کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس سفر کے دوران دیگر کئی میونسپلٹیز کی طرح ہم نے بھی کئی مسائل کا سامنا کیا ہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں مگر اس سفر کے دوران ہم نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے۔ پورے ملک سے اپنے ہم منصب میونسپل رہنماؤں کے ساتھ FCM کے بورڈ میں بیٹھنا اور ہم سب اپنے جن رہائشیوں کی خدمت میں مصروف عمل ہیں ان کے مسائل پر بات چیت کرنا اور مل کر ان کے حل کی حمایت کرنا بلاشبہ ایک اعزاز کی بات ہے۔ میں اپنی آستینیں چڑھانے اور برامپٹن اور اپنے تمام شہروں اور قصبوں کی وکالت کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کی منتظر ہوں۔ جب ہمارے قصبے اور شہر ترقی کی منازل طے کرتے ہیں، تو ہمارا ملک آگے بڑھتا ہے۔"

– روینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5؛ سٹی آف برامپٹن

"کینیڈا کی کمیونٹیز کی ضروریات کی حمایت میں FCM کئی سالوں سے ایک ناگزیر کردار ادا کر رہی ہے۔ مجھے کونسل کی جانب سے فخر ہے کہ کونسلر سینٹوس کو ان کی صلاحیت کے مطابق ہمارے شہر کی خدمت کے لیے منتخب کیا گیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ ان کا جوش اور جذبہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ برامپٹن اور پیل ریجن کے رہائشیوں کی آواز کو بھرپور طور پر اجاگر کیا جائے گی، اور ایسے شاندار نتائج بھی سامنے آئیں گے جو ہماری کمیونٹی پر روزانہ کی بنیادوں پر خوشگوار اثرات مرتب کریں گے۔"

– پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ [ٹویٹر](#)، [فیس بک](#) اور [انسٹاگرام](#) پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca